

## **Buildings and Jalsahs**

Written by Administrator  
Monday, 17 May 2021 10:49 -

---

## **Buildings and Jalsahs**

SATANIC SQUANDER OF THE MADAARIS ULAMA

### ***NASEEHAT OF A PAKISTANI WALIAH***

In the spirit of *Amr Bil Ma'roof Nahyi Anil Munakar*, a Waliah from Pakistan offered the following *Naseehat* to the principal of a well-known Darul Uloom in Pakistan:

لام علیکم

سم پڑھا۔ معزرت کے ساتھ خون شہید کے جلوے میں مولانا حبیب حقانی صاحب نے بڑے فخر سے لکھا وسیع اور بے مثال تاریخی مسجد جس پر کروڑوں کا خرچہ آ رہا ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں علماء کی زندگیوں کی حدیث و تفسیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پڑھتے اور پڑھاتے گزریں کیا بات نہیں گزری جس کا مفہوم ہے کہ تعمیرات پر خرچ کرنا پسندیدہ نہیں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ ہے۔ اسی دارالعلم کے چاروں طرف غربت و جہالت کی انتہا ہے اور یہ حضرات تعمیرات پر اربوں روپے پھر توکل، سادگی اور دنیا سے بے رغبتی پر بیانات دیتے ہیں۔ جس کا کسی پر کوئی اثر اس لئے نہیں لاکھوں روپے ختم بخاری کے جلسوں پر خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ختم بخاری کی تقریبوں میں کے جاتے ہیں جہاں وڈیو بن رہی ہوتی ہیں، تصویریں کھچ رہی ہوتی ہیں جو کہ سب کو معلوم ہے۔ جب فرمانی کی جائے گی تو کہاں سے اثر ہو گا کہاں سے دعائیں قبول ہونگی۔ ختم بخاری، دستار بندی، قاریب کرتے ہوئے ان ارباب مدرسہ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ شام میں عورتیں اور بچے کھلے آسمان یاں برداشت کر رہے ہیں اور اپنے ہی ملک میں لاکھوں لوگ پانی کے لئے ترس رہے ہیں۔ کیا یہ سب راف نہیں جس کو کرنے والے قرآن کی رو سے شیاطین کے بھائی ہیں۔

میں بھی بقول آپ کے جنگل میں منگل منایا گیا۔ ایک دن کے جلسے کے لئے لاکھوں پھونک دئے گئے۔ علیہ وسلم سے محبت کا عملی نمونہ ہے کہ چاروں طرف جہالت کی یہ حالت ہوتے ہوئے کہ وہاں لوگوں نظرہ سکھانے والا نہیں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہئے کہ لاکھوں خرچ کر کے ایسی تقریب منعقد کرتے خیمہ ہی لگا کر دین کی بنیادی تعیم ہی دینی شروع کر دیتے۔

یات سے معمور ہوں تو یہود و نصاری و کفار مل کر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کی تجویز کہ ر اجلاس کر کے مدرسوں کے حقائق بتائیں جائیں۔ ان کانفرنسوں اور اجلاسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔

صویریوں اور لاکھوں کے بل۔

للہیت عطا کرے

Translating the text into Urdu is a complex task as it involves understanding the context and nuances of the original text. The text is a mix of Urdu and English, and the Urdu parts are often in a different script (Arabic script) which is not directly translatable into Urdu script. However, I can provide a rough translation of the text into Urdu, focusing on the main points and structure.